

تجوید ٹپ - 35

✓ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور تجوید سے پڑھنے کی مشق کیا کیجیے، چاہے 5 منٹ ہی کے لیے سہی۔ مگر اس میں تسلسل برقرار رکھیے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو چلتے پھرتے یا گھر کا کام کرتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت پڑیکٹس کیجیے۔

قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے فائدے

✓ آپ اپنے مد صحیح کر سکتے ہیں خاص کر تین جگہوں پر

• الف مد، یاء مد، واو مد (ا، ی، ؤ)

• غنہ

• لمبے مد

آو تجوید سیکھیں - آسان طریقے سے
برائے ویڈیو سبق-35b: بریکٹس سورة القریش قاری کے ساتھ

قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے فائدے

✓ جب آپ ایک اچھے قاری سے سنیں گے تو مخارج،
صفاوت و قواعد سے آپ کا دماغ اچھی طرح مانوس ہوتا
جائے گا اس طرح سے آپ کو دہرانے میں بھی آسانی
ہوگی۔

✓ آپ کو لمبی سانس کی پرائیکٹس کا بھی موقع ملے گا۔
✓ اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کی جھجک بھی دور
ہو جائے گی۔

✓ آپ کو اپنی تلاوت پر اعتماد پیدا ہوگا۔ ان شاء اللہ